

میں اور ذرائعِ ابلاغ - ۲



”زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔“

مقاصد:

- ۱۔ طلبہ کا سوچ میڈیا کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر پانا۔
- ۲۔ سوچ میڈیا کے اثرات اپنے الفاظ میں بیان کر پانا۔
- ۳۔ سوچ میڈیا کے خود اپنی زندگی پر ہونے والے اثرات کی شناخت کرنا۔
- ۴۔ عورتوں کی ہونے والی اہانت اور اس کا تدارک اپنے الفاظ میں بیان کرنا۔
- ۵۔ خود کے ساتھ یادوں کے ساتھ ہونے والی ہر انسانی سے بچاؤ کے لیے مدد حاصل کرنے کے تبادلات سمجھنا۔
- ۶۔ مخالف جنس کے فرد کے بارے میں خود اپنے برداشت کا تجزیہ کرنا اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے منصوبہ بنانا۔
- ۷۔ اس نتیج پر پہنچا کر صحیح مند، نشے سے پاک، تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے والے طلبہ کی ترقی کے امکانات نشہ یا منشیات کا شکار ہونے والے شخص کی بُنُسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ چند اشتہارات، فلموں اور سیریلوں میں دیکھائے جانے والے کچھ واقعات کی وجہ سے اکثر ہمارے دلوں میں عورتوں سے متعلق توہین آمیز اور ان کے ادھورے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے کچھ مختلف پہلوؤں کے بارے ہم سمجھیں گے۔

ملاش کر کے دیکھیے۔



خورد فی تیل، مسالے، کپڑے دھونے کے صابن کے ایسے اشتہار جن میں مرد کھانا پکاتے ہیں یا کپڑے دھوتے ہیں۔

- ایسی فلم جس میں اداکارہ ہیر و کی جان بچاتی ہے یا ہیر و کو شکست دیتا ہے۔
- بچوں کی پروپری کے ایسے اشتہارات جن میں مرد ذمے داری اٹھاتے ہیں۔
- ایسی فلم جس میں ہیر و کی عمر زیادہ اور ہیر و کی عمر کم ہوتی ہے۔
- ایسا اشتہار جس میں عورتیں کار، موٹر سائیکل چلا رہی ہوں۔

- ایسے اشتہار جن میں کچھ تیز رفتار، جرأت مند، دلوں کی دھڑکن روک دینے والے کام عورت کرتی ہو۔



طلبہ کو ایسے اشتہارات تلاش کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیں۔

ان سے دریافت کریں کہ ہر گروہ کو کتنے اشتہار یا فلمیں دستیاب ہوئے؟
انھیں تلاش کرنا آسان تھا یا مشکل؟ کیوں؟ اس سے ان کو کیا سمجھ میں آیا؟
کار، موٹر سائیکل چلانا، تیز رفتاری، بہادری کے کرتے دکھانا کیا یہ سب کام عورتیں نہیں کر سکتیں؟
کھانا پکانا، بچوں کو سنبھالنا، کپڑے دھونا کیا یہ صرف عورتوں کے ہی کام ہیں؟

ذیل میں درج باتوں میں کون سا پیغام دیا جاتا ہے؟

- ۱۔ کوئی ہیر و کسی ہیر و نین کا تعاقب کرتا ہے، اس کو ہراساں کرتا ہے لیکن اس کو سزا نہیں ہوتی ہے۔
- ۲۔ ہیر و نین کس کی؟ اس کے بارے میں ہیر و اور ولین آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔

عورتوں سے چھیڑ چھاڑ (Eve teasing) :

کڑکوں کو چڑانا، چھیڑ چھاڑ کرنا، عوامی مقامات پر کڑکوں کو ہراساں کرنا، جان بوجھ کر پریشان کرنا وغیرہ کو ایو ٹیز گنگ، کہتے ہیں۔ کچھ لوگ راستے پر، بحوم میں اس طرح پریشان کرنے والا برتاؤ کرتے ہیں۔ خش شعر بازی کرنا، مس کرنا، فقرے کسنا (چھپتی کسنا) زبردستی کرنا، نازیبا اشارے بازی کرنا، جذبات کو تحریک یا اُکسانے والی غلط حرکتیں کرنا، یہ تمام اس میں شامل ہیں۔

الطلبه کو غور و خوض کرنے میں مدد کریں۔

عورتوں کی شبیہ
حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، یہ احساس
 الطلبه میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔
کیا ایسے مزید جملے، موقع طلبه کو معلوم ہیں، ان
سے دریافت کریں۔

عمل کیجیے

۵۔ لڑکیوں کا اور ۶۔ لڑکوں کے گروہ بنائیے۔ ایسے دو الگ الگ گروہ بنائیے۔ عوامی مقامات پر چھپٹر چھاڑ کرنے کے واقعے پر مبنی ایک ایک ڈراما ہر گروہ سے کروائیے۔ ڈراما ختم ہونے کے بعد عمل جل کر بات چیت کیجیے۔ لڑکوں کا کردار لڑکیاں ادا کریں اور لڑکیوں کا کردار لڑکے ادا کریں۔ (لڑکی پیدل آ رہی ہے۔ چار پانچ لڑکوں کی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے)

پہلا لڑکا : (سمیٹی بجا تاہے)

(لڑکی گردن جھکائے آگے بڑھ جاتی ہے)

دوسرالڑکا : شش شش

(وہ اور آگے بڑھ جاتی ہے)

تیسرا لڑکا : (کاغذ کا گچھا بنا کر اس کی طرف پھینکتا ہے)

(وہ گھبرا جاتی ہے اور تیز قدموں سے نکل جاتی ہے)

اس کے چلے جانے کے بعد تمام دوست ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو تالی دیتے ہیں۔

ذراسوچیے۔



اپنی بچی سے بدسلوکی کے خوف سے کئی والدین اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تنہا باہر نہیں جانے دیتے۔ ملازمت نہیں کرنے دیتے۔ اس ذہنیت اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے ایسی لڑکیوں سے کتنے موقع چھن جاتے ہیں۔ ہمیں ہر ایک کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟

جماعت کا ماحول

۱۔ کیا آپ کی جماعت کا ماحول مساوات پر مبنی ہے؟

۲۔ جماعت میں بے چینی پیدا کرنے والی چھپٹر خانی اور شعر بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟

۳۔ کیا ایک دوسرے کی تکلیف سمجھ کر، کسی کو تکلیف نہ ہونے کی احتیاط برتری جاتی ہے؟





۴۔ کیا جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مساوی موقع سب کو ملتے ہیں؟

۵۔ کیا اسکول میں کسی کے بارے میں قابلِ اعتراض باتیں لکھی جاتی ہیں یا افواہ پھیلائی جاتی ہے؟ مذکورہ بالاسوالوں پر پانچ سے دس منٹ غور و خوض کیجیے۔

ذمہ دارانہ سماجی برداشت

۱۔ بدسلوکی اور نامناسب برداشت کرنے والوں سے ایک دوسرے کا تحفظ

بدسلوکی اور نامناسب برداشت سے ہوشیار رہیے۔ کوئی آپ سے بدسلوکی کرنے کی کوشش کرتا ہو تو اس کو پروز و طریقے سے منع کیجیے۔ آپ کا جس پر بھروسہ ہے انھیں اس کی اطلاع دیجیے۔ آپ کی جان پہچان کے لڑکے۔ لڑکیوں سے کوئی اس طرح کی بدسلوکی کرتا ہوا دلھائی دے تو اسے روکیے۔ اپنے بھروسے مند بزرگوں کو اس کی اطلاع دیجیے۔ زیادتی کرنے والوں یا نامناسب سلوک کرنے والوں کو کبھی برداشت مت کیجیے۔



۲۔ آپ کے آس پاس رہنے والے افراد کا احترام

آپ کو کئی افراد پسند کرتے ہوں گے لیکن وہ سب آپ کو پسند ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بھی کئی افراد کو پسند کرتے ہوں گے لیکن وہ سب آپ کو پسند کریں یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتے ہی ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کر سکیں گے۔ جس طرح آپ کی کچھ پسند۔ ناپسند ہوتی ہیں اسی طرح ہر شخص کو کچھ باقیں زیادہ پسند ہوتی ہیں اور کچھ پسند نہیں ہوتی۔ آپ دوسروں کی پسند کا احترام کرنا سیکھیں۔ اپنی حد کو پہچان کر برداشت کیجیے۔ جو جم کا فائدہ اٹھا کر حکم پیل کرنا، ناشائستہ طور پر مس کرنا، سیٹ بجانا، خش زبان میں خط لکھنا، نازیبا اشارے بازی کرنا، دیوار پر کسی کے بارے میں تو ہیں آمیز جملے لکھنا، اس قسم کے برداشت قابل مذمت ہیں۔ ان سے بچیں۔ دوسروں کو بھی ایسا برداشت کرنے دیں۔

ذہن نشین کیجیے۔

ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً درختوں کو موافق مٹی، پانی اور بعض اوقات کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانوروں اور انسانوں کی بھی اسی طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جانور اور انسان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے ضروری امور میں بھی اصولوں کی پابندی کرتا ہے جیسے کہ پیاس لگنے پر صاف پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھوک لگنے پر خراب غذاء نہیں کھاتا، ضرورت پڑنے پر خود پر قابو رکھتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح زندہ رہنے کے لیے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بھی کچھ اصولوں کی پابندی ذمہ دار انسان ہونے کی علامت ہے۔

وچیزی اور اس سے پیدا ہونے والی حاصل کرنے کی خد

اس چیز/فرد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا۔

ایسا سمجھنا کہ وہ چیز/فرد مجھے ہی ملے، اس پر میرا ہی حق ہے۔

وہ چیز/فرد زیادہ پسند آتا۔

اس چیز/فرد کے تین دلچسپی محسوس ہونا۔

کوئی چیز/فرد پسند آتا۔
مثلاً نیشی اشیاء، لڑکا/لڑکی

درج بالا خاکے کی مدد سے بات چیت کیجیے۔

اسے سمجھ لیجیے۔

ہماری مطلوبہ چیز یا فرد کو حاصل کرنے کا میلان اور اس سے پیدا ہونے والی حاصل کرنے کی خد کے سبب ہم درج بالازینہ بہ زینہ چڑھتے جاتے ہیں۔ تاہم ایسا کرتے ہوئے ہم ایک ذمے دار فرد کی حیثیت سے زینہ بہ زینہ پستی کی طرف اُترتے جاتے ہیں۔

۳۔ مصدقہ معلومات حاصل کیجیے

جسمانیات اور جسمانی سائنس جیسے موضوع کی مدد سے ہم اپنے جسم کے نظام کیسے چلتے ہیں؟ معیاری تغذیہ سے کیا مراد ہے؟ حیاتین کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس

معلومات کے مناسب استعمال کے بغیر ہم تدرست/صحت مند نہیں رہ سکتے۔ مثلاً حیاتین کے بارے میں ہم جانتے ہیں لیکن اس پر مشتمل غذا استعمال نہ کرنے سے اس کا فائدہ ہمارے جسم کو نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلط یا ادھوری معلومات حاصل ہو تو ہمیں خوف، بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ مثلاً جذام کے مریض کے پاس بیٹھنے سے ہمیں بھی جذام ہو سکتا ہے یا کبھی کبھی غلط معلومات سے بے انہا تجسس پیدا ہو سکتا ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے نتیجے پر غور نہ کرتے ہوئے عمل کرنے کا امکان ہوتا ہے۔ مثلاً فلاں اگر ’الف‘ دوا کھائے تو دودن میں اس کا پانچ کلووزن گھٹ جائے گا۔



آپ کے ساتھ یا آپ کے جان پہچان کے کسی فرد کے ساتھ استھان، گھر یا ٹولم و زیادتی، زبردستی جیسے کچھ سُگین واقعات ہو رہے ہوں تو خاموش نہ بیٹھیں۔ فوراً 1098 نمبر پر فون کریں۔ یہ فون نمبر بچوں اور نوجوانوں کے لیے امدادی مرکز کا ہے۔ مصیبت زدہ خواتین کے لیے امدادی مرکز کا فون نمبر ہے:

1010 / 1091

طلبہ کی مدد کے لیے انھیں
ذمے دار افراد کے
فون نمبر دیں۔

کسی الیکٹرینک اور کمپیوٹر کے ذریعے مثلاً موبائل، کمپیوٹر، پین ڈرائیو، کیمروہ وغیرہ کے ذریعے انجام دیے جانے والے جرم کو سائبِ ریم کہتے ہیں۔ کسی فرد یا ادارے کے تعلق سے فرش یا قابل اعتراض مواد کی تشویش کرنا، ذاتی حساس معلومات کی چوری کرنا اور بے جا استعمال کرنا، نامناسب روایہ یا مواتد کی تشویش کرنا یہ تمام امور سائبِ ریم کے تحت جرم ہیں اور اس کی پاداش میں آپ کو جیل اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں۔



مناسب / غیر مناسب

- آپ کی رائے میں کیا درج ذیل بالغ طلبہ کا برداشت مناسب ہے؟
- ۱۔ آپ کے دوست کو ایک لڑکی پسند ہے۔ وہ جب اسکول جاتی ہے تب وہ لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس نے اس لڑکے کو انکار کر دیا تو اب وہ اس کو بدنام کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔
- ۲۔ آپ کے کچھ دوستوں کو ہجوم میں لڑکیوں کے ساتھ دھکم پیل کرنا، بُری نیت سے مس کرنا پسند ہے۔

دیے ہوئے بیانات پر گفتگو
کریں اور کیا مناسب، کیا
غیر مناسب اور کیوں، اس کی
طلبہ کو وضاحت کرنے کہیں۔

- ۳۔ جماعت میں کسی لڑکے یا لڑکی کے بارے میں بدنام کرنے والی یا انھیں بے عزت کرنے والی باتیں تختیہ سیاہ پر لکھنا۔
- ۴۔ دیگر لڑکوں / لڑکیوں کے فوٹو ان کی اجازت کے بغیر (چپکے سے) نکالنا۔
- ۵۔ اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد آپ کے دوست لڑکے - لڑکیوں کے بارے میں فقرہ بازی کرتے ہیں۔



ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ غور کیجیے۔

چار یا پانچ بچوں کا گروہ بنائیے۔
بازودی ہوئی ایک ایک مثال ایک ایک گروہ کو دیں۔ یہ مسئلہ آپ کے دوست کے بارے میں ہوتا ہے آپ اسے کس طرح سمجھائیں گے؟ اس پر دس منٹ گفتگو کیجیے۔ اسے جماعت کے سامنے پیش کش کیجیے اور اپنی بیاض میں لکھیے۔

- آپ کے دوست یا سہیلی کو اسکول سے گھر جاتے ہوئے کچھ لڑکے چڑاتے ہیں، ہر اسال کرتے ہیں۔
- آپ کے دوست / سہیلی نے نہایت اعتماد سے آپ کو بتایا کہ وہ مخصوص آدمی آس پاس ہوتا ہے تو اسے بہت بے چینی ہوتی ہے، خوف آتا ہے۔
- آپ کے دوست کو گلکا کھانے کی لٹ لگ گئی ہے۔ وہ گلکے کا شکار ہوا ہے۔
- آپ کا دوست لڑکیوں / عورتوں سے بہت بد تمزیزی سے پیش آتا ہے۔ آپ اس کے خیالات اور برداشت بدلتا چاہتے ہیں؟

سماجی ذرائع ابلاغ (سوشل میڈیا)



جن ذرائع کے استعمال سے سماج کے مختلف گروہوں کے لوگ خاص طور پر ایک دوسرے سے میل ملا پڑھنے، بات چیت کرنے، ایک دوسرے کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، حادثات بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے سوشنل میڈیا کہتے ہیں۔ Twitter، Facebook، WhatsApp میں استعمال کیے جانے والے سوشنل میڈیا کے اہم ذرائع ہیں۔

اطلاعات و ابلاغ کے ذرائع اور سماجی ابلاغ کے ذرائع میں فرق

ذرائع ابلاغ اور Facebook، WhatsApp جیسے سماجی ذرائع ابلاغ میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ ذیل میں آپ کے غور و فکر کے لیے کچھ نکات دیے ہوئے ہیں:

- ۱۔ مہنگے/ستے
- ۲۔ کئی لوگوں تک رسائی/ نارسائی



- ممکن ہو تو طلبہ سے اس پیغام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہیں۔ ان کے صحیح یا غلط ہونے کی جانچ کرنے کے لیے کہیں۔
- ۱۔ کیا آپ کے والدین، دوست/ سہیل WhatsApp کی معلومات کی تصدیق کرتے ہیں؟
 - ۲۔ فرض کیجیے کچھ جھوٹی معلومات کی تشهیر کی گئی تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بات چیت کیجیے۔

۳۔ اصول، نظم و ضبط اور جواب دہی

۴۔ استعمال میں آسان/مشکل

۵۔ موثر/غیر موثر

سوشنل میڈیا سے ملنے والی معلومات

ذیل میں دیا ہوا پیغام WhatsApp پر بہت گردش کر رہا تھا۔

”UNESCO نے بھارت کے راشٹر گیت کو سب سے بہترین قرار دیا۔“

۶۶ اسے سمجھ لیجیے۔

غلط معلومات پھیلانے کے اثرات

سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کچھ بھی معلومات ڈال دے تو اس کے بارے میں کچھ جواب دہی نہیں ہوتی ہے۔ کئی سماج و شمن عناصر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مختلف گروہوں کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنا، اپنی رائے کو حقیقت بول کر پھیلانا جیسے کئی امور یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایک ذمے دار شخص کے طور پر ایسا نہ کرنا اور ایسی معلومات آپ تک پہنچ تو اس کی مناسب تحقیق کر کے اس کی صداقت پر یقین آنے کے بعد ہی اس پر بھروسہ کر کے اسے آگے بھیجنایا نہ بھیجنایا، اس پر ہمیں پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔

کوئی بھی معلومات ملے تو اس کی تصدیق کرنے کا طریقہ -

۱۔ پہلے اس بات کا اطمینان کرنا کہ کیا انٹرنیٹ پر وہ معلومات کہیں دکھائی دیتی ہے۔

۲۔ وہ معلومات نظر آئے تو تصدیق کرنا کہ وہ کس مصدقہ اخبار یا حکومت کی ویب سائٹ پر ہے۔

۳۔ کیا معلومات دینے والا شخص مصدقہ ہے؟ اس کے پاس اس سے متعلق کچھ اعداد و شمار ہیں یا صرف اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہے؟ اس کی تصدیق کرنے کے بعد ہی اس پر یقین کریں۔

ہم پر ہونے والے اثرات

آپ کو WhatsApp، Facebook یا Twitter کے بارے میں کیا معلوم ہے؟

روزانہ کتنا وقت آپ ان سب کے استعمال میں گزارتے ہیں؟

کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کو سوшل میڈیا کے یہ تمام ذرائع استعمال کرنے کے لیے مزید وقت مل جائے؟ کیوں؟

یہ احساس ہونا کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے

سوشل میڈیا میں آپ کے کسی بھی اظہارِ رائے کو رد عمل ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اس ہر ہم میں رہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ظاہر کیے گئے ہر خیال کو لوگ توجہ سے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہر اظہارِ رائے یا ہمارے ہر عمل، ہر نظریے پر توجہ دی جاتی ہو۔



حقیقی زندگی اور آن لائن زندگی



سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی زندگی میں پیش آنے والی اچھی باتیں ہی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تاہم حقیقی زندگی میں سکھ دکھ دونوں ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ارسال کردہ معلومات کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے سب لوگ خوش ہیں اور میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے ممکن ہے کہ کئی لوگ نا امیدی کاشکار ہو جائیں۔

تحمیل ذات کا فریب

سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فہم پیدا ہوتی ہے کہ ہماری شخصیت، ہماری زندگی، ہمارے رشتے ناتے یہ تمام ہمیشہ سب سے بہتر، بے عیب، مکمل و جامع، مثالی ہونے ہی چاہئیں ورنہ معاشرے میں وہ غیر موثر ہیں۔ اس کی وجہ سے چھوٹی باتیں بڑی کر کے دکھانے، غیر موجود باقتوں کو مجازی طور پر تخلیق کرنا جبکہ انفرادی زندگی ویسی نہ ہونے کے سبب احساسِ مکتری پیدا ہونا جیسے کئی واقعات نظر آتے ہیں۔ دراصل ہماری شخصیت، ہماری زندگی، ہمارے رشتے ناتے ناکمل ہوتے ہیں۔ انھیں بہترین بنانے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔

حالات کا ادراک ہونا

کسی حالت سے متعلق واقفیت پیدا ہونے کے لیے کئی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً لفظ، جسمانی حرکات، حرکات و سکنات، بولنے کا طریقہ وغیرہ۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف ۷ فیصد مکالمے لفاظ میں ادا ہوتے ہیں۔ باقی ۹۳ فیصد مکالمے جسمانی حرکات، حرکات و سکنات اور ہمارے لمحے سے ادا ہوتے ہیں۔ حالات کا ادراک ہوئے بغیر ہمیں معاشرے میں گزران کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے درکار ذہنی روابط براہ راست تجربے سے ہی جڑتے ہیں۔ اس کا مطلب سوшل میڈیا جیسی مجازی دنیا میں ہمارا جتنا وقت خرچ ہوگا اتنا اصل تجربے کا موقع کم ہوتا جائے گا اور زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی مہارتیں فروغ نہیں پائیں گی۔

تحریر کو معنویت کا جامہ پہنانا



تھوڑی سی تفریخ

چارٹ کاغذ سے ۶ - ۵ چھپیاں بنائیے۔ ہر ایک کے سامنے کے حصے پر 'لائن' کا نشان بنائیے اور پشت پر کسی ایک بات کے متعلق رو عمل (کمینٹ) دینے والا کوئی جملہ لکھیے۔ آپ اپنے طور پر بھی جملے لکھ سکتے ہیں۔

ایک طالب علم کو سامنے بٹھائیں۔ اس کو صرف 'لائک' کا حصہ دکھائی دے لیکن دوسروں کو دوسری جانب نظر آئے، اس طرح چھپیوں کی ترتیب لگائیں۔ اب اس طالب علم سے کوئی بھی ایک عمل مثلاً گیت کانا، لطیفہ کہنا وغیرہ کروائیں۔ دیگر طلبہ میں سے کوئی بھی اس میں سے ایک چھپی اٹھا کر 'لائک' کا حصہ اس طالب علم کو دکھائے۔ وہ طالب علم اس 'لائک' کا کیا مطلب ہے، اس پر غور کر کے دوسروں کو بتائے۔

۱۔ اچھا ہے۔

۲۔ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن کچھ خاص نہیں ہے۔

۳۔ ٹھیک ہے۔ کچھ غلط نہیں ہے۔

۴۔ ٹھیک ہے۔ مجھے پسند ہے۔

۵۔ ٹھیک ہے۔ مجھے زیادہ کی توقع تھی لیکن اب کیا کریں؟


۶۔ بہترین ہے۔

اسے سمجھ لیجیے۔

ایک 'لائک' کے نشان کے اتنے مختلف معانی نکلتے ہیں، پھر اگر سو شل میڈیا ہی ہمارے اظہار اور دوسروں کے متعلق رائے دینے کا اہم وسیلہ بن جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں سے اپنا انفرادی مکالمہ کم ہو جائے تو ہمیں لوگوں سے متعلق اور لوگوں کو ہم سے متعلق کئی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔

تہائی

موازنہ کیجیے:



۱۔ 'ب'، رات میں دیریک موبائل پر گیم کھیلتا ہے۔ اس کی وجہ سے جلدی نہیں اٹھتا۔ ورزش نہیں کرتا۔ سائیکل پر جاتے وقت یا بس سے جاتے وقت بھی گانا سنتا ہے، موبائل سے کھیلتا ہوا جاتا ہے۔

۱۔ 'الف'، پابندی سے ورزش کرتا ہے اور کھینچنے کے لیے جاتا ہے۔

۲۔ درمیانی و قفے میں ب، اور اس کے سب دوست کھانے کے دوران اپنے اپنے موبائل میں مگن رہتے ہیں۔	۲۔ اسکول میں اپنے دوستوں سے بات چیت کرتا ہے، وقفے میں سب اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔
۳۔ رات کو سب لوگوں کے ساتھ نہیں کھاتا ہے۔ اپنے طور پر اکیلا ٹی وی دیکھتا ہے یا انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے۔	۳۔ شام کے وقت گھر والوں سے، پڑوسیوں سے گپ شپ کرتا ہے۔
۴۔ ب، کے فیس بک پر ۱۵۰۰ ارفرینڈس ہیں۔	۴۔ 'الف' سوشل میڈیا کا محدود پیمانے پر استعمال کرتا ہے لیکن اسے اس کے اطراف کے کئی لوگ پہچانتے ہیں۔

آپ کی رائے میں کون زیادہ تھا ہے؟

۶۶ اسے سمجھ لجئے۔

ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم زیادہ لوگوں سے جڑ گئے ہیں۔ ہمارے زیادہ دوست ہیں تاہم یہ میل ملا پہبخت ہی سطحی ہوتا ہے۔ اس میں بامعنی دوستی کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جتنا وقت ہم آن لائن گزارتے ہیں اتنا وقت آمنے سامنے بات چیت کرنے میں کم گزارتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے دل میں دل کی بات سانجھا کرنے جیسی کمی دوستی پیدا نہیں ہوتی۔

کون زیادہ ترقی کرے گا؟

- پانچ گزیاں بنائیے/ لائیے۔ ہر ایک کو ذیل میں سے کوئی ایک فرد تصور کیجیے۔
 - ۱۔ نشے بازنوجوان۔
 - ۲۔ استھان کا شکار ہونے کی وجہ سے نا امید ہو کر اسکول چھوڑ دینے والا فرد۔
 - ۳۔ اشتہار اور ذراائع ابلاغ کے اثرات کی وجہ سے تعلیم میں دلچسپی نہ رکھنے والا فرد۔
 - ۴۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے غلط معلومات کے زیر اثر فرقہ وارانہ فساد میں شامل ہونے والا فرد۔
 - ۵۔ صحت مند، اسکول میں توجہ دینے والا نوجوان لڑکا / لڑکی۔ ذیل کے نکات پر مع وجوہات گفتگو کیجیے۔
- کس کی آئندہ زندگی صحت مند رہے گی؟
 - ۱۔ کس کا کریئر اچھا ہوگا؟
 - ۲۔ کس کا دل صحت مند اور اچھا رہے گا؟
 - ۳۔ کس کے گھر میلوں تعلقات بہتر رہیں گے؟
 - ۴۔ کون اپنے شوق اور مشاغل کو پروان چڑھا سکے گا؟

جماعت کے ایک سرے سے ابتداء کر کے دوسرے سرے تک جانا ہے۔
ہر سوال پوچھنے کے بعد، اگر کسی شخصیت کے حوالے سے جواب ہاں ہو تو گزیا کو ایک قدم آگے بڑھائیں ورنہ وہیں رہنے دیں۔
تمام سوالوں کے آخر میں دیکھیں کہ کس نے سب سے زیادہ پیش قدمی / ترقی کی۔
طلباہ سے پوچھیں کہ انھیں اس سے کیا سمجھ میں آیا؟

ذرائع ابلاغ کے ثبت پہلو

اسے سمجھ لیجئے۔

ذرائع ابلاغ کے منفی پہلو ہم دیکھو چکے۔ اسی طرح اس کے ثبت پہلو بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی معرفت ہمیں قدیم، تاریخی، سائنسی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تعلیمی اطلاعات، متأنی، زریں خیالات، دعوت، سمعی بصری معلومات لمحوں میں حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کی مدد سے خیالات کا لین دین کرنا آسان ہوتا ہے۔ نیز قومی یونیورسٹی اور سماجی تدبیلیوں میں بھی ذرائع ابلاغ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زراعت، صحت، تعلیم، صنعت، کاروبار جیسے شعبوں میں بھی ذرائع ابلاغ کا استعمال ہوتا ہے۔

ذرائع ابلاغ کے دیگر ثبت استعمال اپنی بیاض میں لکھیے۔

سوشل میڈیا کے اثرات پر کامیابی سے قابو پانا

۱۔ سمجھ لیجئے

سوشل میڈیا کے آپ پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بیدار رہیے۔ ان اثرات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔

۲۔ پہچانی

آپ خود روزانہ کتنا وقت سوшل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس جانب توجہ دیجیے۔ آپ نے اپنا فون/ انٹرنیٹ استعمال نہیں کیا تو کیا آپ بے چین ہو جاتے ہیں؟ اس بارے میں غور کیجیے۔

۳۔ سامنا کیجئے

روزانہ خود کے لیے کچھ وقت مقرر کیجیے۔ موبائل، انٹرنیٹ سے دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ ابتدا میں دس منٹ اپنے آپ کے بارے میں غور کرنے کے لیے، اپنی صحت کے لیے نکالنے کی ابتدا کیجیے۔ آہستہ آہستہ اس وقت میں اضافہ کیجیے۔

۲۔ عمل کیجیے

اپنے مقرر کردہ تبدیلیوں پر عمل کیجیے۔ کامیاب نہ ہوں تو اپنے سرپرستوں سے بات چیت کیجیے۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انھیں سمجھائیے۔ نیا منصوبہ بنائیے۔

قدر پیاری (اوزان % ۱۵)

نمبرات	نامناسب (غیر اطمینان بخش)	مناسب (اطمینان بخش)	بہت اچھا (بہترین)	کسوٹی
	دوسرے طلبہ کی بیاض دیکھ کر جواب پورے کیے۔	حصہ لیا لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا۔	اشتہار تلاش کرنے کی سرگرمی میں فعال حصہ لے کر وضاحت کے ساتھ اپنے نتیجے بیان کیے۔	اشتہار تلاش کیجیے۔
	دوسرے طلبہ کی بیاض دیکھ کر کام پورا کیا۔	خود احتسابی کیا لیکن تبدیل کرنے کے لیے کوئی تجویز پیش نہیں کی۔	ایمانداری سے خود احتسابی کیا اور ضرورت پڑنے پر تبدیلی کرنے کا منصوبہ بنایا۔	جماعت کا ماحول خود احتسابی
	بات چیت میں حصہ نہیں لیا۔ صرف دوسروں کو سنتا رہا۔	بات چیت میں حصہ لیا لیکن سبق میں دیے ہوئے نکات کا تدارک لائجہ عمل میں شامل نہیں ہے۔	گروہی بات چیت میں جوش و خروش سے حصہ لے کر سبق میں بتائے ہوئے نکات پر مبنی تدارک پیش کیا۔	آپ کیا کریں گے؟



